

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| 7 | וְזָאת | לְיְהוָה | וַיֹּאמֶר | שָׁמַע | וְהָנָה | קוֹל | וְהוֹדָה | וְאָל- | עָמָו | תְּבַיְאֲנוּ |
| | اور یہ | یہوداہ کے لیے | اور اس نے کہا | سن | یہوواہ | آواز | یہوداہ کی | اور | اپنی قوم کے پاس | لے آسے |
| | H2063 | H3063 | H0559 | H8085 | H3068 | | H3063 | H0413 | | H0935 |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|------|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | יָדָיו | רַב | לָזוּ | וְעִזָּר | מִצְרָיו | תְּהִיָּה: | ס |
| | اس کے ہاتھ | کافی | اس کے لیے | اور مدد | اس کے دشمنوں سے | ہو | - |
| | H3027 | | | H5828 | | H1961 | |

اُس وقت کرتے سامنا کا مخالفوں لڑیں۔ لے کے اُس ہاتھ کے اُس کر۔ شامل میں قوم کی اُس دوبارہ اُسے کر سن پکار کی یہوداہ رب، اے برکت: کی یہوداہ کر مدد کی

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|
| 8 | וּלְלוּ | אָמַר | תְּמִיךְ | וְאוֹרִיךְ | לְאִישׁ | חֲסִידֶךָ | אֲשֶׁר | נִסִּיתוּ |
| | اور لاوی کے لیے | کہا | تیرے تمیم | اور تیرے اوریم | مرد کے لیے | تیرے مقدس کے | جس کو | تو نے آزمایا |
| | H3878 | H0559 | H8550 | H0224 | H0376 | H2623 | | H5254 |

| | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| | בְּמִסָּה | תְּרִיבָהוּ | עַל- | מִי | מְרִיבָה: |
| | مسہ میں | تو نے جھگڑا کیا اس سے | پر | پانی | مربیہ کے |
| | H4532 | H7378 | | H4325 | H4809 |

مربیہ اور آزمایا میں مسہ اُسے نے ٹو ہیں۔ بوتے پاس کے لاوی خادم وفادار تیرے تمیم اور اوریم بنام قرعے کے کرنے معلوم مرضی تیری برکت: کی لاوی لڑا سے اُس میں

| | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 9 | הָאָמַר | לְאָבִיו | וּלְאִמּוֹ | לָא | רְאִיתִיו | וְאֶת- | אָחָיו | לָא |
| | جو کہتا ہے | اپنے باپ کے لیے | اور اپنی ماں کے لیے | نہیں | میں نے دیکھا اسے | اور | اپنے بھائیوں کو | نہیں |
| | H0559 | H0001 | H0517 | H3808 | H7200 | H0853 | H0251 | H3808 |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------------|
| | הָכִיר | וְאֶת- | [בְּנוֹ] | (בְּנָיו) | לָא | יָדַע | כִּי | נֶשְׁמְרוּ | אֲמָרְתָּךְ |
| | پہچانا | اور | [اپنے بیٹے کو] | (اپنے بیٹوں کو) | نہیں | جانا | کیونکہ | انہوں نے حفاظت کی | تیرے کلام کی |
| | H0853 | | | | H3808 | H3045 | | H8104 | |

| | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| | וּבְרִיתָךְ | יְנַצְרוּ: |
| | اور تیرے عہد کی | نگہبانی کرتے ہیں |
| | H1285 | H5341 |

کیا۔ لحاظ کا بچوں یا بھائیوں سگے اپنے نہ کا، باپ ماں اپنے نہ نے اُس کہ تک یہاں رکھا، قائم عہد تیرا کر سنہال کلام تیرا نے اُس

| | | | | | | | | |
|----|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 10 | יִזְרוּ | מִשְׁפָּטֶיךָ | לְיַעֲקֹב | וְתוֹרָתְךָ | לְיִשְׂרָאֵל | יְשִׁימוּ | קְסוּדָה | בְּאֶפְדֶּךָ |
| | سکھاتے ہیں | تیرے احکام | یعقوب کو | اور تیری شریعت | اسرائیل کو | رکھتے ہیں | بخور | تیری ناک میں |
| | | H4941 | H3290 | H8451 | H3478 | | H6988 | H0639 |

| | | | |
|--|-----------------------|------|-----------------------|
| | וּכְלִיל | עַל- | מִזְבְּחֶךָ: |
| | اور سوختنی | پر | تیری قربان گاہ پر |
| | H3632 | | H4196 |

بے چڑھاتا قربانیاں والی ہونے بہسم پر گاہ قربان تیری اور بخور سامنے تیرے کر سکھا شریعت تیری کو اسرائیل اور ہدایات تیری کو یعقوب وہ

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 11 | בָּרַךְ | וְהָנָה | חֵילֹךְ | וּפְעֵל | יָדָיו | תְּרַצָּה | מִחִין | מִתְנַיִם | קָמְיוֹ |
| | برکت دے | یہوواہ | اس کی قوت کو | اور کام | اس کے ہاتھوں کا | قبول فرما | توڑ | کمر | اس کے اٹھنے والوں کی |
| | H1288 | H3068 | H2428 | H6467 | H3027 | H7521 | H4272 | H4975 | |

| | | | | |
|--|------------------------------|------|------------|---|
| | וּמִשְׁנָאִיו | מִן- | יְקוּמוּן: | ס |
| | اور اس کے نفرت کرنے والوں کی | سے | اٹھیں | - |
| | H8130 | | | |

کبھی آئندہ کہ مار ایسا کو والوں رکھنے نفرت سے اُس اور توڑ کمر کی مخالفوں کے اُس کر۔ پسند کام کا ہاتھوں کے اُس کر بڑھا کو طاقت کی اُس رب، اے اٹھیں نہ۔

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 12 | לְבַנְיָמִן | אָמֵר | יָרִיד | יְהוָה | יִשְׁכֵּן | לְבַטַּח | עָלִיו | חָפַץ | עָלִיו | כָּל- | הַיּוֹם |
| | بنیامین-کے لیے | کہا | پیارا | یہوواہ-کا | بسے-گا | امن-سے | اس-پر | چھاتا-ہے | اس-پر | سارا- | دن |
| | H1144 | H0559 | | H3068 | H7931 | H0983 | | H2653 | | H3605 | H3117 |

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| وְבִין | כְּתִיפָיו | שָׁכַן: | ס |
| اور-درمیان | اس-کے-کندھوں-کے | بستا-ہے | - |
| H0996 | H3802 | H7931 | |

کے ڈھلانوں پہاڑی کی اُس یمن بن ہے۔ دیتا پناہ اُسے رات دن رب کیونکہ ہے، رہتا پاس کے اُس سے سلامتی وہ ہے۔ پیارا کو رب یمن بن برکت: کی یمن بن ہے۔ رہتا محفوظ درمیان

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 13 | וְלְיוֹסֵף | אָמֵר | מְבַרְכֶת | יְהוָה | אֲרָצוֹ | מִמְּנֶדָה | שָׁמַיִם | מִטְּלָה |
| | اور-یوسف-کے لیے | کہا | مبارک | یہوواہ-سے | اس-کی-زمین | نفیس-چیزوں-سے | آسمان-کی | اوس-سے |
| | H3130 | H0559 | H1288 | H3068 | H0776 | H4022 | H8064 | H2919 |

| | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| וּמִתְהוֹם | רַבְּצַת | תַּחַת: |
| اور-گہراؤ-سے | جو-بیٹھتا-ہے | نیچے |
| H8415 | H7257 | H8478 |

نکلیں۔ پھوٹ چشمے سے نیچے کے زمین اور ٹپکے اوس قیمتی سے آسمان دے۔ برکت کو زمین کی اُس رب برکت: کی یوسف

| | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 14 | וּמִמְּנֶדָה | תְּבוּאוֹת | שָׁמֶשׁ | וּמִמְּנֶדָה | נֶרֶשׁ | יְרֻחִים: |
| | اور-نفیس-چیزوں-سے | پیداوار | سورج-کی | اور-نفیس-چیزوں-سے | پہل | مہینوں-کے |
| | H4022 | H8393 | H8121 | H4022 | H1645 | H3391 |

ہو۔ حاصل پہل لذیذترین کا مہینے پر اور پیداوار بہترین کی سورج کو یوسف

| | | | | | | |
|----|-----------------------|------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 | וּמִקְרָאשׁ | הַרְרִי- | קָדִים | וּמִמְּנֶדָה | נְבֻעוֹת | עוֹלָם: |
| | اور-چوٹیوں-سے | پہاڑوں-کے- | قدیم-کے | اور-نفیس-چیزوں-سے | ٹیبلوں-کی | ابدی |
| | H2042 | | | H4022 | H1389 | H5769 |

جائے۔ نوازا سے چیزوں بہترین کی وادیوں ابدی اور پہاڑوں قدیم اُسے

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 16 | וּמִמְּנֶדָה | אֲרָץ | וּמְלֹאָה | וּרְצוֹן | שָׁכְנֵי | סִנְה | תְּבוּאוֹתָהָ |
| | اور-نفیس-چیزوں-سے | زمین-کی | اور-اس-کی-بھرپوری | اور-رضامندی | جھاڑی-میں-بسنے-والے-کی | جھاڑی-کی | آئے |
| | H4022 | H0776 | H4393 | H7522 | H7931 | H5572 | H0935 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| לְרֹאשׁ | יֹסֵף | וּלְקַדְקֹד | נֶזֶר | אֶחָיו: |
| سر-پر | یوسف-کے | اور-چاندی-پر | علیحده-کیے-بوئے-کے | اپنے-بھائیوں-سے |
| H3130 | H6936 | H5139 | H0251 | |

ٹھہریں، پر سر کے یوسف برکتیں تمام یہ تھا۔ کرتا سکونت میں جھاڑی ہوئی جلتی جو ہو پسند کو اُس وہ جائیں۔ کھل لئے کے اُس ذخیرے تمام کے زمین ہے۔ شہزادہ میں بھائیوں اپنے جو پر سر کے اُس

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|---------|----------|
| 17 | בְּכוֹר | שׂוֹרֹו | הַרְר | לֹו | וּקְרָנֵי | רְאִים | קְרָנֵי | בְּהִים | עַמִּים |
| | پہلوٹھا | اس-کے-بیل-کا | شان-والا | اس-کے-لیے | اور-سینگ | جنگلی-بیل-کے | اس-کے-سینگ | ان-سے | قوموں-کو |
| | H1060 | H7794 | H1926 | | | H7214 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|------------|---|
| יְנֻחַ | יַחְדָּו | אֶפְסִי- | אֲרָץ | וְהֵם | רַבְבוֹת | אֶפְרָיִם | וְהֵם | אֶלְפֵי | מְנַשָּׁה: | ס |
| مارے-گا | مل-کر | کناروں-تک- | زمین-کے | اور-یہ | دس-ہزار | افرائیم-کے | اور-یہ | ہزار | منسی-کے | - |
| H5055 | H0776 | H1992 | H2733 | H0669 | H1992 | H0505 | H4519 | | | |

کے افرائیم گا۔ مارے کو قوموں سب تک انتہا کی دنیا وہ سے جن ہیں سینگ کے بیل جنگلی سینگ کے اُس اور ہے، عظیم جیسا پہلوٹھے کے سانڈ یوسف ہیں۔ بی ایسے افراد ہزاروں کے منسی ہیں، بی ایسے افراد بے شمار

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 18 | וּלְזָבוּלוֹן | אָמֵר | שָׁמַח | זְבוּלוֹן | בְּצִאתָהָ | וַיִּשְׁשָׁךְ | בְּאֶהְלִיָּהּ: |
| | اور-زبولوں-کے لیے | کہا | خوش-ہو | زبولوں | اپنے-نکلنے-میں | اور-یساکار | اپنے-خیموں-میں |
| | H2074 | H0559 | H8055 | H2074 | H3318 | H3485 | H0168 |

بو-خوش ہوئے ربتے میں خیموں اپنے ایشکار، اے منا۔ خوشی وقت نکتے سے گھر زیولون، اے برکت: کی ایشکار اور زیولون

| | | | | | | | | | | |
|----|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 19 | עֲמֻמִים | הָרַר- | יִקְרָאוּ | שָׁם | יִזְבְּחוּ | זִבְחֵי- | צִדְק | כִּי | שָׁפַע | יָמִים |
| | قوموں-کو | پہاڑ-پر- | بلائیں-گے | وہاں | چڑھائیں-گے | قربانیاں- | راستبازی-کی | کیونکہ | کثرت | سمندروں-کی |
| | | H2022 | H7121 | H8033 | H2076 | H2077 | H6664 | | H8228 | H3220 |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---|
| וְיִזְכְּרוּ | וְשָׁפוּנֵי | מָמוּנֵי | חֹל: | ס |
| چوسیں-گے | اور-چھپے-ہوئے | دے-ہوئے | ریت-کے | - |
| H3243 | H8226 | H2934 | H2344 | |

چھپے میں ریت کی سمندر اور کثرت کی سمندر وہ گے۔ کریں پیش قربانیاں کی راستی وہاں اور گے دیں دعوت کی آنے پر پہاڑ اپنے کو قوموں دیگر وہ گے۔ لیں کر جذب کو خزانوں ہوئے

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 20 | וּלְגַד | אָמַר | בָּרוּךְ | מִזְרְחֵיב | גַּד | כְּלָבִיא | שָׁזֵן | וְטָרַף | זָרוּע | אֶף- |
| | اور-جاد-کے-لیے | کہا | مبارک | وسعت-دینے-والا | جاد-کو | شیرنی-کی-طرح | بستا-بے | اور-پھاڑتا-بے | بازو | بلکہ- |
| | H1410 | H0559 | H1288 | H7337 | H1410 | | H7931 | H2963 | H2220 | H0637 |

קְדָקֵד:
سر-بھی
[H6936](#)

بے-ربتا تیار لئے کے ڈالنے پہاڑ سر یا بازو کا کسی کر دیک طرح کی شیربیر جد دے۔ کر وسیع علاقہ کا جد جو وہ بے مبارک برکت: کی جد

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|----------|---------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
| 21 | וַיֵּרָא | רֵאשִׁית | לֹא | כִי- | שָׁם | חֲלֻקָת | מְחֻקָק | סָפוּן | נִיחָא | רֵאשִׁי |
| | اور-اس-نے-دیکھا | پہلا-حصہ | اپنے-لیے | کیونکہ- | وہاں | حصہ | حکمران-کا | چھپا-ہوا-تھا | اور-آیا | سرداروں |
| | H7200 | H7225 | | | H8033 | | H2710 | H5603 | H0857 | |

| | | | | | | | |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|-------|-----------------------|---|
| עָם | צִדְקָת | יְהוָה | עֲשָׂה | וּמִשְׁפָּטָיו | עַם- | יִשְׂרָאֵל: | ס |
| قوم-کے | راستبازی | یہوواہ-کی | اس-نے-کی | اور-اس-کے-فیصلے | ساتھ- | اسرائیل-کے | - |
| | H6666 | H3068 | | H4941 | | H3478 | |

مرضی راست کی رب نے اُس تو ہوئے جمع رابنما کے قوم جب گیا۔ رکھا محفوظ لئے کے اسی حصہ کا رابنما لی، چن زمین اچھی سے سب لئے اپنے نے اُس لایا۔ میں عمل فیصلے کے اُس میں بارے کے اسرائیل اور کی پوری

| | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-----------------------|------|-----------------------|
| 22 | וּלְדָן | אָמַר | דָּן | גִּיד | אֲרִיָה | יִזְנֵק | מִן- | הַבְּשָׂן: |
| | اور-دان-کے-لیے | کہا | دان | بچہ | شیر-کا | چھلانگ-مارتا-بے | سے- | بسن |
| | H1835 | H0559 | H1835 | H1482 | | H2187 | | H1316 |

بے۔ لگاتا چھلانگ کر نکل سے بسن جو بے بچہ کا شیربیر دان برکت: کی دان

| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 23 | וּלְנִפְתָּלִי | אָמַר | נִפְתָּלִי | שָׁבַע | רְצוֹן | וּמְלָא | בְּרֻכָת | יְהוָה | יָם | וּדְרוֹם |
| | اور-نفتالی-کے-لیے | کہا | نفتالی | سیر | رضا-سے | اور-بھرا-ہوا | برکت-سے | یہوواہ-کی | مغرب | اور-جنوب |
| | H5321 | H0559 | H5321 | H7649 | H7522 | H4392 | H1293 | H3068 | H3220 | H1864 |

יְרֵשָׁה:
میراث-میں-لے
[H3423](#)

پائے میں میراث علاقہ کا جنوب کے اُس اور جھیل کی گلیل وہ بے۔ حاصل برکت پوری کی اُس اُسے بے، سیر سے منظوری کی رب نفتالی برکت: کی نفتالی کا۔

| | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 24 | וּלְאָשֵׁר | אָמַר | בָּרוּךְ | מִבְּנֵים | אָשֵׁר | יְהוּ | רְצוּי | אֲחִיו | וְטַבָּל |
| | اور-آشر-کے-لیے | کہا | مبارک | بیٹوں-میں-سے | آشر | بو | پسندیدہ | اپنے-بھائیوں-میں | اور-ڈبوںے-والا |
| | H0836 | H0559 | H1288 | | H0836 | H1961 | H7521 | H0251 | H2881 |

בְּשָׂמֶן
تیل-میں
رְבִילוֹ:
اپنا-پاؤں
[H7272](#)
[H8081](#)

سکے۔ ڈبو میں اُس پاؤں اپنے وہ کہ ہو تیل اتنا کا زیتون پاس کے اُس ہو۔ پسند کو بھائیوں اپنے وہ ہے۔ مبارک سے سب میں بیٹوں آشر برکت: کی آشر

25 **בְּרִזְלָא** **וּנְחָשֶׁת** **מִנְעֻלָּיִךְ** **וּכְנֻמִּיךְ** **דְּבַבְיָךְ**
 لوبا اور پیتل تیرے-جوتے اور-جیسے-تیرے-دن تیری-طاقت
[H1270](#) [H4515](#) [H3117](#) [H1679](#)

رے۔ قائم بھر عمر طاقت تیری ہوں، کے پیتل اور لوہے کٹڈے کے دروازوں کے شہروں تیرے

26 **אֵין** **כָּאֵל** **יִשְׁרוּן** **רֶכֶב** **שָׁמַיִם** **בְּעֻזָּךְ** **וּבְנִיחָתוֹ** **שְׂחָקִים**
 نہیں-ہے خدا-جیسا یشورون سوار آسمانوں-پر تیری-مدد-میں اور-اپنی-شان-میں بادلوں-پر
[H0369](#) [H0410](#) [H3484](#) [H7392](#) [H8064](#) [H5828](#) [H1346](#) [H7834](#)

ہے۔ آتا لے کے کرنے مدد تیری کر بیٹھ پر بادلوں میں جلال اپنے ہاں کر، ہو سوار پر آسمان جو ہے، نہیں کوئی مانند کی خدا کے یشورون

27 **מַעֲנֶה** **אֱלֹהֵי** **קָדְשׁ** **וּמִתְחַת** **זְרֻעַת** **עוֹלָם** **וַיְנַרְשׁ** **מִמֶּנִּיךְ** **אֹיֵב** **וַיֹּאמֶר**
 ٹھکانہ خدا ازل-کا اور-نیچے بازو ابدی اور-اس-نے-نکال-دیا تیرے-سامنے-سے دشمن-کو اور-کہا
[H4585](#) [H0430](#) [H8478](#) [H2220](#) [H5769](#) [H1644](#) [H6440](#) [H0341](#) [H0559](#)

הַשָּׁמַד
 نابود-کر
[H8045](#)

ہے۔ کہتا کو کرنے ہلاک اُسے کر بھگا سے سامنے تیرے کو دشمن وہ ہے۔ رکھتا پھیلائے نیچے تیرے بازو ازلی اپنے وہ ہے، گاہ پناہ تیری خدا ازلی

28 **וַיִּשְׁכֹּן** **יִשְׂרָאֵל** **בְּמַח** **בְּדָד** **עֵינַי** **יַעֲקֹב** **אֶל-** **אֶרֶץ** **דִּגְן** **וּתְרוֹשׁ** **אֶף-**
 اور-بسا اسرائیل امن-سے اکیلا چشمہ یعقوب-کا میں- زمین غلہ-کی اور-مے-کی بلکہ-
[H7931](#) [H3478](#) [H0983](#) [H0910](#) [H3290](#) [H0413](#) [H0776](#) [H1715](#) [H8492](#) [H0637](#)

שָׁמַי **יַעֲרָפוּ** **טָל**
 اس-کے-آسمان ٹپکائیں-گے اوس
[H8064](#) [H6201](#) [H2919](#)

کے اُس اور گی، کرے پیدا کثرت کی انگور اور اناج زمین کی اُس گا۔ رے محفوظ اور الگ چشمہ کا یعقوب گا، گزارے زندگی سے سلامتی اسرائیل چنانچہ
 گا۔ دے پڑے اوس پر زمین آسمان اوپر

29 **אֲשֶׁרִיךְ** **יִשְׂרָאֵל** **מִי** **כְּמוֹד** **עַם** **נוֹשָׁע** **בִּיהוָה** **מִנִּי** **עֻזָּךְ** **וַאֲשֶׁר-**
 مبارک-ہو-تو اسرائیل کون تیری-طرح قوم بچائی-گئی یہوواہ-سے ڈھال تیری-مدد-کی اور-جو-
[H0835](#) [H3478](#) [H4310](#) [H3644](#) [H3467](#) [H3068](#) [H4043](#) [H5828](#)

חָרֵב **נִאֲנָתְךָ** **וַיִּכְחָשׁוּ** **אֹיְבֶיךָ** **לָךְ** **וַאֲתָה** **עַל-** **בְּמוֹתֵימוֹ** **הַדְּרֹךְ**
 تلوار تیری-شان-کی اور-جھوٹ-بولیں-گے تیرے-دشمن تیرے-لیے اور-تو پر- ان-کی-اونچائیوں-پر چلے-گا
[H2719](#) [H1346](#) [H3584](#) [H0341](#)

5

کر کہا شکست دشمن تیرے ہے۔ تلوار کی شان تیری اور ڈھال کی مدد تیری وہ ہے۔ بجایا نے رب جسے ہے، مانند تیری کون ہے۔ مبارک کتنا تو اسرائیل، اے
 گا۔ کچلے تلے پاؤں کمریوں کی اُن تو اور گے، کریں خوشامد تیری